



دیوالی اور نیو اینرز ایوو کے لیے فائر ورکس وینڈرز کی تربیت آن لائن کھل گئی ہے

برامپٹن، آن (6 اکتوبر 2020) – سٹی آف برامپٹن نے ایسے وینڈرز کے لیے اپنا آن لائن تربیتی عمل شروع کر دیا ہے، جو اس سال دیوالی اور نیو اینرز ایوو کے لیے آتش بازیاں فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

یہ تربیت لازمی ہے اور وینڈرز کو فروخت کا لائسنس دینے سے پہلے اس کورس کی تکمیل ضروری ہے۔

کورس کے لیے رجسٹر ہونے کے لیے، وینڈرز برامپٹن فائر پریوینشن ڈیویژن کو 905.874.2740 پر کال کر سکتے ہیں یا fire.prevention@brampton.ca پر ای میل کر سکتے ہیں اور انہیں کورس کی تفصیلات بذریعہ ای میل بھیج دی جائیں گی۔

کووڈ-19 کے لیے صحت و سلامتی کی حدود کی وجہ سے، تربیت پانچ آسان مرحلوں میں آن لائن فراہم کی جائے گی:

1. 2020 فائر ورکس ریٹیلر کورس کے لیے ادائیگی جمع کرائیں اور آگ سے حفاظت کے معائنے کے لیے درخواست دیں
2. فائر ورکس ریٹیلر ٹریننگ ویڈیو دیکھیں
3. فائر ورکس ریٹیلر سوالنامہ مکمل کریں
4. لائسنس کی درخواست اور رجسٹریشن کی فیس جمع کروائیں۔ تفصیلات کے لیے licensing@brampton.ca پر رابطہ کریں۔
5. 2020 فائر ورکس ریٹیلر لائسنس سٹی ہال سے بذات خود حاصل کریں۔ سٹی ہال تشریف لانے سے پہلے وقت لینا ضروری ہے۔

آتش بازیوں کے وینڈرز کے لیے تربیت میں فروخت کے لیے اجازت شدہ آتش بازیوں کی اقسام، ذخیرہ کرنے کے لیے قواعد، دکان میں لگانا اور فروخت کرنا، گاہکوں کی آئی ڈی کے تقاضے اور خریداروں کو تقسیم کے لیے حفاظتی رہنما ہدایات شامل ہوتی ہیں۔

مختلف مقامات والے وینڈرز کے لیے، ہر جگہ سے کم از کم ایک آپریٹر کے لیے کورس مکمل کرنا ضروری ہے۔ وینڈرز کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آگ سے حفاظت کے معائنے کے لیے درخواست دینے کا آخری وقت بروز جمعہ، 23 اکتوبر 2020 دوپہر تک ہے۔

سٹی آف برامپٹن کا فائر ورکس ہائی لاء سال میں صرف چار مرتبہ - وکٹوریا ڈے، کینیڈا ڈے، دیوالی اور نیو اینرز ایوو - صرف کم حد والی آتش بازیوں (جو جلائے جانے پر 3 میٹرز یا 10 فٹ سے کم جاتی ہیں) کی اجازت دیتا ہے۔

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca